



**FDNY**

**(Bureau of Fire Prevention) بیورو آف فائر پریوینشن**

اکتوبر، 2018 (اے)

## نیا!


آپ کے تجارتی کوکنگ ایگزہاسٹ (رینج ہڈ) کے ڈیکالز تبدیل ہو رہے ہیں!

## رینج ہڈ کے ڈیکالز

تجارتی کوکنگ ایگزہسٹس (رینج ہڈ) کو ڈیکالز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟  
 NYC فائر کوڈ تجارتی کوکنگ ایگزہسٹ نظاموں اور کھانا پکانے کے دیگر سازوسامان، جو چکنائی کی میل سے لدے ہوئے بخارات خارج کرتا ہے، کے وقفے وقفے سے معائنے اور سروس کا تقاضہ کرتا ہے۔ رینج ہڈ کے ڈیکالز پر تجارتی کوکنگ ایگزہسٹ کی صفائی کے بارے میں ضروری معلومات درج ہوتی ہیں۔

رینج ہڈ کے ٹیگز کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟  
 NYC محکمہ تحقیقات (DOI) نے رینج ہڈ کی صفائی کرنے والی بہت سی کمپنیوں کو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا ہے۔ رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ نے FDNY کی منظور شدہ کسی کمپنی سے ہی کام کروایا ہے۔

رینج ہڈ کے پرانے ڈیکالز کے ساتھ کیا مسائل تھے؟  
 رینج ہڈ کے پرانے ڈیکالز سائز، صورت، رنگ اور میٹیریل کے لحاظ سے مختلف قسموں کے تھے جس کا مطلب ہے کہ جعلی ڈیکالز باآسانی تیار کئے جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ، FDNY اور عام لوگوں کے لیے انہیں سمجھنا اور ان کی شناخت کرنا ایک مشکل امر تھا۔



رینج ہڈ کا نیا ڈیکال کیسا دکھائی دیتا ہے؟  
 رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز کو بہت سے نئے سیکیورٹی اقدامات سے معیاری بنایا گیا ہے۔ - صرف FDNY منظور شدہ رینج ہڈ کمپنیاں ہی کاروباری اداروں کو یہ نئے ڈیکالز فراہم کر سکتی ہیں۔ رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز کو FDNY عملہ اور عام لوگ باآسانی شناخت کر سکتے ہیں۔

رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز کو کیا چیز بہتر بناتی ہے؟

رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز میں مندرجہ ذیل سیکیورٹی اقدامات موجود ہیں:

- QR کوڈ
- عام لوگوں اور FDNY کو FDNY کی منظور شدہ کمپنیوں کی فہرست تک رسائی فراہم کرتا ہے۔
- دھاتی رنگت کی UV تہ
- اعلیٰ معیار اور اس کی نقل قریب قریب ناممکن ہے۔
- بار کوڈ
- پر ڈیکال کا ایک منفرد سیریل نمبر ہوتا ہے۔


رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز ہمیں کب دستیاب ہوں گے؟

15 نومبر 2018 سے

- سروس کے بعد نئے ڈیکالز لگائے جانے چاہئیں۔
- رینج ہڈ کے پرانے ڈیکالز، جو پچھلی سروس کے بعد لگائے گئے تھے، وہ اپنی تاریخ تئسیخ تک مؤثر ہوں گے - لیکن 14 فروری 2019 کے بعد نہیں۔

15 فروری 2019 سے

- FDNY رینج ہڈ کے صرف نئے ڈیکالز کو ہی تسلیم کرے گا، اور جن کاروباری اداروں کے پاس سروس کی تعمیل کے موزوں ڈیکالز نہیں ہیں، ان کو خلاف ورزی کے نوٹس جاری کرے گا۔



میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ رینج ہڈ کے ڈیکالز جعلی ہیں؟

جعلی ڈیکالز (دائیں طرف موجود امیج دیکھیں) پر اعلیٰ معیار کی دھاتی UV تہ نہیں ہو گی، یا دھاتی UV تہ زیادہ گہرے رنگ کی ہو گی۔

## فٹنس کے سرٹیفیکیٹ (COF) کی مہر

فٹنس کے سرٹیفیکیٹ کی مہر کیا ہوتی ہے؟  
رینج ہڈ کی صفائی کرنے والی کمپنیوں کے وہ ملازمین جنہوں نے کام سرانجام دیا تھا، انہیں کام مکمل کرنے کے بعد اپنی COF استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔



- مہر پر یہ معلومات درج ہوں گی:
- فٹنس کے سرٹیفیکیٹ کے حامل کا پورا نام؛
- فٹنس کے سرٹیفیکیٹ کا نمبر؛
- کمپنی کا نام، ID اور
- شاید کمپنی کا لوگو بھی ہو۔

## مشورے

PFE QR Code



میں رینج ہڈ کی صفائی کے لیے کمپنی کا انتخاب کیسے کروں؟  
آپ <https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/certificates-commercial-cooking-exhaust.page> پر دی گئی فہرست سے FDNY کی منظور شدہ کسی کمپنی کا انتخاب کر سکتے ہیں یا اپنے سیل فون کی مدد سے QR کوڈ کو اسکین کریں (اس کی تصویر لیں یا QR کو پڑھنے والی مفت ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں) اور یقینی بنائیں کہ کمپنی کا نام FDNY سے منظور شدہ ہے۔ منظور شدہ کمپنیوں کی فہرست کی ہر 30 دن کے بعد تجدید کی جاتی ہے۔

میں یہ کیسے یقینی بناؤں کہ میں FDNY کی کسی منظور شدہ کمپنی کو بی کام دے رہا ہوں؟  
سروس سے پہلے کمپنی سے کہیں کہ آپ کو رینج ہڈ کے نئے تعمیلی ڈیکالز دکھائے۔ صرف FDNY کی منظور شدہ کمپنیاں ہی نئے ڈیکالز اور COF کی مہریں حاصل کر سکتی ہیں۔ سروسنگ کمپنی کی خدمات حاصل کرنے سے پہلے QR کوڈ کو اسکین کر کے یقینی بنائیں کہ کمپنی موجودہ طور پر FDNY کی منظور شدہ ہے۔

اگر سروسنگ کمپنی ابھی تک پرانے ڈیکالز استعمال کر رہی ہو، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟  
آپ کو کمپنی کو مطلع کرنا چاہیے کہ انہیں رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز ہی استعمال کرنے چاہئیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو FDNY کی منظور شدہ فہرست میں سے کسی اور کمپنی کو کام دے دیں۔

اگر میں کسی غیر مجاز کمپنی کو کام دے دیتا ہوں تو مجھے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟  
سب سے پہلے، آپ اپنے کاروبار، مال و متاع، اپنے گاہکوں، فوری مدد کے کارکنان اور عام لوگوں کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے، آپ کو خلاف ورزی کا/کے نوٹس موصول ہوں گے۔ مزید برآں، اگر آگ لگ جاتی ہے تو آپ کی انشورنس کمپنی آپ کی طرف سے داخل کردہ کلیمز مسترد کر دے گی۔

میں سروس کمپنی کی طرف سے غیرقانونی سرگرمی یا ممکنہ فراڈ کی رپورٹ کیسے کروں؟  
کسی مسئلے کی صورت میں FDNY کو 718-999-2533 پر فوراً کال کریں۔ آپ [pubcert@fdny.nyc.gov](mailto:pubcert@fdny.nyc.gov) پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔